



## سوال

(53) غیر محرم کا عورت کو قبر میں اتارنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میرا پاؤں کٹا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میری بیوی بیمار ہو گئی، علاج کے لیے اسے سعودیہ کے ایک ہسپتال میں داخل کروایا گیا، میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو وفات کے بعد اسے ایمبولینس کے ذریعہ قبرستان لے جایا گیا، ہسپتال کے بعض ملازمین بھی میرے ساتھ تھے اور قبر میں بھی اسے ہسپتال کے انہی ملازموں ہی نے اتارا، کیونکہ میں لپٹے ہوئے پاؤں کی وجہ سے عاجز و قاصر تھا، لیکن میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کیا ان اجنبی اور غیر محرم آدمیوں نے میری بیوی کو جو قبر میں اتارا تو اس کا مجھے کوئی گناہ تو نہ ہوگا، کیا اس کا کوئی کفارہ وغیرہ تو نہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

غیر محرم اگر کسی عورت کو اس کی قبر میں اتارے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ محرم کی شرط قبر میں اتارنے کے لیے نہیں، بلکہ سفر کے لیے ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ اسلامیہ

مساجد کے احکام: ج 2 صفحہ 61

محدث فتویٰ